



وزارة الصحة
Ministry of Health

کیا آپ ڈرائیور ہیں اور کسی

بزرگ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟

ہمیشہ اپنا ماسک پہنیں، یقینی بنائیں کہ یہ مستقل طور پر صاف ہو اور گیلا ہونے پر اسے تبدیل کریں۔



بزرگ کے ساتھ رابطے سے گریز کریں اور ضرورت کے علاوہ، کم از کم دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں



بزرگ کو پچھلی نشست پر بیٹھانے اور اگلی نشست خالی رکھنے کو یقینی بنائیں اور کار کے اندر ہوا کا اچھا بہاؤ برقرار رکھیں



اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انفکشن کی علامات ہیں، تو بزرگ سے دور رہیں اور تاکد (BeSure) کلینکس کی قریب ترین برانچ میں جائیں



بزرگ افراد ان لوگوں میں شامل ہیں جن میں کورونا وائرس سے ہونے والی پیچیدگیاں ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے



MOH initiative

عش
بصحة
Live Well